

ریاست نیو یارک
ورکرز کمپنیشن بورڈ

ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں بچاؤ، بحالی اور/یا صفائی کی کارروائیوں میں شرکت کی رجسٹریشن
(بیانِ حلفی ازروئے ورکرز کمپنیشن قانون §162)

براہ کرم صفحہ 3 سے شروع ہونے والے بیانِ حلفی کو مکمل کرنے سے پہلے ذیل میں موجود پس منظر اور ہدایات کو پوری طرح سے اور دھیان سے پڑھیں۔

پس منظر

- 14 اگست 2006 کو، ورکرز کمپنیشن قانون (WCL) آرٹیکل 8-A، ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں بچاؤ، بحالی اور/یا صفائی کی کارروائیوں میں "شامل فرد" جو "اہلیتی حالت" میں مبتلا ہو، یا مستقبل میں مبتلا ہو سکے، اس کے ورکرز کمپنیشن کی ضائع شدہ اجرت اور طبی مراعات کا دعویٰ دائر کرنے کے وقت میں توسیع کرنے کے لیے اور بورڈ کو ایسے دعوؤں کو دوبارہ کھولنے کی اجازت دینے کے لیے نافذ کیا گیا تھا جو پہلے بے وقت قرار دیے گئے تھے۔ "اہلیتی حالت" کی تعریف میں تبدیلی کرنے اور رجسٹریشن کی اختتامی تاریخ میں اضافہ کرنے کے لیے آرٹیکل 8-A میں حالیہ طور پر ترمیم کی گئی تھی۔
2. "ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں بچاؤ، بحالی اور/یا صفائی کی کارروائیوں میں شریک فرد" (جس کا "شرکت کنندہ" کے طور پر حوالہ دیا جاتا ہے) WCL §161(1) میں درج ذیل میں سے کسی کے بھی طور پر متعارف کروایا جاتا ہے:
(a) ملازم جو ملازمت کی مدت کے دوران، یا (b) رضاکار جو بورڈ کے روبرو بورڈ کے اطمینان کے لیے شواہد پیش کرے کہ وہ مرد یا وہ خاتون:
(i) ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی سائٹ پر بچاؤ، بحالی، یا صفائی کی کارروائیوں میں 11 ستمبر 2001 اور 12 ستمبر 2002 کے درمیان شریک ہوا تھا/ہوئی تھی، یا
(ii) نیو یارک شہر بمقام فریش کلز لینڈ فیل (Fresh Kills Land Fill) میں 11 ستمبر 2001 اور 12 ستمبر 2002 کے درمیان کام کرتا تھا/کرتی تھی، یا
(iii) نیو یارک شہر کے سرد خانوں یا مینہیٹن (Manhattan) کے مغربی کنارے پر بندرگاہی چبوترے والے مقامات پر عارضی سرد خانوں میں 11 ستمبر 2001 اور 12 ستمبر 2002 کے درمیان کام کرتا تھا/کرتی تھی، یا
(iv) نیو یارک شہر میں مینہیٹن کے مغربی کنارے اور فریش کلز لینڈ فیل کے درمیان بحری بیڑوں پر 11 ستمبر 2001 اور 12 ستمبر 2002 کے درمیان کام کرتا تھا/کرتی تھی۔
3. "ورلڈ ٹریڈ سینٹر سائٹ" کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ یہ "دریائے ہڈسن اور کینال اسٹریٹ سے شروع ہونے والی لائن کے ذیلی حصے میں کسی بھی مقام سے؛ کینال اسٹریٹ سے پانیک اسٹریٹ کے مشرق پر؛ پانیک اسٹریٹ سے دریائے مشرق کے جنوب کی جانب؛ اور مینہیٹن کی نچلی سطح تک پھیلی ہوئی ہے۔"
4. "اہلیتی حالت" کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ "ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں بچاؤ، بحالی یا صفائی کی کارروائیوں میں شرکت کے دوران کسی بھی قسم کی خطرناک صورتحال سے دوچار ہونے کے نتیجے میں درج ذیل بیماریوں یا کیفیات کا لاحق ہونا:
(a) بالائی حلقہ تنفس اور لعابی جھلی کے امراض، بشمول کیفیات مثلاً آشوب چشم، ناک کی سوزش، بلغم کا جمع ہونا، ورمِ حلق، ورمِ نرخرہ، صوتی نالی کا مرض، بالائی ہوا کی نالی کی شدید ردعملی کیفیت اور سانس کی نالیوں کی سوزش، یا ایسی کیفیات کا مجموعہ؛
(b) سانس کی نالی کے نچلے حصے کے امراض، جن میں بشمول لیکن بالتحديد تنفسی نالی کی سوزش، دمہ، تنفسی نالی کی شدید ردعملی کیفیت میں نقص کا عارضہ، اور نمونیا کی مختلف اقسام، جیسے انتہائی حساسیت، سوزش، یا ایٹروسینوفیلیک (معدہ کی سوجن) شامل ہیں؛
(c) معدے کی نالی کے امراض، ان میں شدید یا دائمی، غذائی نالی کی سوزش اور تیزابیت (متلی، قے) شامل ہیں، جو سامنا ہونے کی وجہ سے لاحق ہوں یا سامنا ہونے کی وجہ سے بڑھے ہوں؛
(d) نفسیاتی محور کے امراض، بشمول صدمے کے بعد تناؤ کا مرض، بے چینی، ڈپریشن، یا اسی طرح کی کیفیات کا کوئی مجموعہ؛ یا
(e) سامنا ہونے کے نتیجے میں شروع ہونے والے ایسے نئے امراض جن کا مستقبل میں لاحق ہونے کا خدشہ رہتا ہے، مثلاً کینسر، پھیپھڑوں کا دائمی مزاحمتی مرض، ایسیبیٹوس سے متعلق مرض، خالص دھاتی زہر خورانی، پتھوں یا اعصاب کا مرض اور دائمی نفسیاتی مرض۔
5. ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں بچاؤ، بحالی یا صفائی کی کارروائیوں میں شامل فرد کے دعوے کے سلسلے میں ورکرز کمپنیشن قانون کے آرٹیکل 8-A کی درخواست کے اندر آنے والے، شرکت کنندہ سے ورکرز کمپنیشن بورڈ ("بورڈ") کے پاس رجسٹر ہونے کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ رجسٹریشن فارم (WTC-12) کو 11 ستمبر 2026 سے پہلے لازماً دائر کیا جانا چاہیے۔
6. رجسٹر ہونے کے لیے، اس بیانِ حلفی کو درست طور پر اور دیانتداری کے ساتھ مکمل کیا جانا چاہیے اور اس کی اصل (دستاویز) کو 11 ستمبر 2026 سے پہلے، بورڈ ڈسٹرکٹ آفس یا ڈاؤن اسٹیٹ سینٹرل میلنگ سینٹر (پتہ جات ذیل میں ملاحظہ کریں) میں دائر کروائیں۔

ہدایات

A. اگر آپ ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں بچاؤ، بحالی، اور/یا صفائی کی کارروائیوں میں "شرکت کنندہ" تھے، جیسا کہ اس اصطلاح کی اوپر وضاحت کی گئی ہے، تو خطرناک صورتحال کا سامنا ہونے کے باعث ایسی "اہلیتی حالت" میں مبتلا ہونے، یا مستقبل میں مبتلا ہونے کے خدشے کی صورت میں کہ جس کے سبب آپ ورکرز کمپنیشن کی مراعات کے لیے دعویٰ دائر کریں گے یا کر سکتے ہیں یا دائر کر چکے ہیں، آپ کو بورڈ کی جانب سے درخواست کردہ معلومات بیانِ حلفی کے ہمراہ فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔

- B. براہ کرم بیانِ حلفی کو درج ذیل معلومات فراہم کرتے ہوئے مکمل کریں:
- آئٹم 1 - اپنا موجودہ رہائشی پتہ دیں، بشمول اپارٹمنٹ نمبر (اگر قابل اطلاق ہے)، اسٹریٹ نمبر، اسٹریٹ کا نام، شہر، ریاست اور زپ کوڈ۔ فراہم کیے گئے رہائشی پتے کے مختلف ہونے کی صورت میں ڈاک کا پتہ فراہم کریں۔ اپنا ٹیلی فون نمبر شامل کرنا یقینی بنائیں۔ براہ کرم اپنا سوشل سیکیورٹی نمبر اور اپنی تاریخ پیدائش بلحاظ ماہ/تاریخ/سال فراہم کریں۔
- آئٹم 2 - اس جملے سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ نے 11 ستمبر 2001 سے 12 ستمبر 2002 کے درمیان ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی سائٹ، فریش کِلز لینڈ فِل، نیو یارک شہر کے سرد خانے یا عارضی سرد خانے، یا مینہیٹن اور فریش کِلز لینڈ فِل کے مغربی کنارے کے درمیان بحری بیڑوں میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں بچاؤ، بحالی اور صفائی کی کارروائیوں میں حصہ لیا تھا۔
- آئٹم 3 - یہ بتائیں کہ آیا آپ نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں بچاؤ، بحالی اور/یا صفائی کی کارروائیوں میں ایک ملازم کی حیثیت سے حصہ لیا (اپنی ملازمت کے دوران تنخواہ کے لیے) یا رضاکار کے طور پر (اپنی ملازمت کی مدت کے دوران نہیں، بلکہ بغیر تنخواہ کے اپنی مرضی سے) شرکت کی؟
- آئٹم 4 - رضاکارانہ طور پر اپنی سرگرمیوں کے کسی بھی قسم کے شواہد کی مختصر وضاحت کے ساتھ فہرست درج کریں، مثال کے طور پر، بیج، خطوط، بیانات، تصاویر، انتظامات، وغیرہ؛
- آئٹم 5 - ٹیبل پُر کریں۔ اپنی بہترین صلاحیت کے مطابق ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں بچاؤ، بحالی، اور/یا صفائی کی کارروائیوں میں اپنی شرکت کی تاریخیں اور مقامات واضح کریں۔ ہر ایک مقام پر تاریخ یا تاریخوں کے مطابق اپنے وہاں کیے گئے کام کو بیان کریں۔ اپنے آجر (آجرین) یا تحفظاتی ادارے/رضاکار ایجنسی کا مکمل نام اور پتہ دیں جن کے ساتھ آپ نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں بچاؤ، بحالی، اور/یا صفائی کی کارروائیوں میں رضاکارانہ طور پر کام کیا ہے، اور اگر قابل اطلاق ہو اور آپ جانتے ہوں، تو اپنے آجر کے انشورنس کیریئر کا نام فراہم کریں؛ اور
- آئٹم 6 - اس بات کی نشاندہی کریں کہ آیا آپ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی بچاؤ، بحالی، اور/یا صفائی کی کارروائیوں میں اپنی شرکت سے متعلق سابقہ طور پر بورڈ کے پاس کارکنان کے معاوضے کا دعویٰ دائر کر چکے ہیں۔ اگر آپ ایسا کر چکے ہیں، تو آپ دعویٰ دائر کرنے کی تاریخ اور WCB کیس نمبر لازماً شامل کریں۔
- آئٹم 7 - یہ آئٹم آپ کے فہم و ادراک کو بیان کرتا ہے کہ بیانِ حلفی دائر کرنا، اور یوں "شرکت کنندہ" کے طور پر رجسٹر ہونا ورکرز کمپنیشن کی مراعات کے لیے دعویٰ دائر کرنے جیسا نہیں ہے۔ مراعات کا دعویٰ کرنے کے لیے آپ بورڈ کو بروقت فارم C-3 یا فارم WTCVol-3 لازماً جمع کروائیں۔
- آئٹم 8 - یہ آئٹم بیان کرتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ قانون ان افراد کو لائق تعزیر قرار دیتا ہے جو بورڈ کو غلط تحریری دستاویزات جمع کرواتے ہیں اور غلط بیانات دیتے ہیں۔
- C. بیانِ حلفی مکمل کرنے کے بعد، براہ کرم اس کا جائزہ لیں تاکہ اس امر کو یقینی بنایا جا سکے کہ اس کے مندرجات کامل اور درست ہیں۔
- D. بیانِ حلفی پر ناظر رجسٹری کے سامنے دستخط کریں۔ بیانِ حلفی پر آپ کے دستخط کا تصدیق شدہ یا اس بیان پر دستخط کرتے وقت آپ جس دائرہ اختیار میں رہائش پذیر ہیں اس کے حوالے سے مسابقتی عمل کا حامل ہونا لازم ہے۔ اس وقت تک بیانِ حلفی پر دستخط نہ کریں جب تک ناظر رجسٹری موجود نہ ہو۔ براہ کرم نوٹ فرمائیں: اس بیان پر دستخط کرتے ہوئے، آپ قسم کھاتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں کہ حامل ہذا میں فراہم کی گئی معلومات اور دیے گئے بیانات دروغِ حلفی کی سزا کے تحت درست ہیں۔ آپ نے یہ بھی بتایا کہ آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ قانون انشورنس کے دعوے کے سلسلے میں جھوٹی گواہی، جان بوجھ کر جھوٹے بیانات دینے، اور دائر کرنے کے لیے جعلی دستاویز جمع کروانے کے لیے سزائیں مقرر کرتا ہے۔
- E. بورڈ کے پاس 11 ستمبر 2026 سے پہلے بورڈ کے سنٹرلائزڈ میلنگ ایڈریس پر اصل بیانِ حلفی کا اندراج آپ پر لازم ہے:

P.O. Box 5205, Binghamton, N.Y. 13902

اضافی معلومات

- F. بورڈ کے پاس اس بیانِ حلفی کو دائر کروانے سے یہ نہیں سمجھا جائے کہ ورکرز کمپنیشن کی مراعات کے لیے دعویٰ دائر کیا جا رہا ہے۔ ورکرز کمپنیشن کی مراعات کے لیے دعویٰ دائر کرنے کے لیے، آپ کو ایک فارم C-3 (ملازم کا دعویٰ برائے معاوضہ) یا WTCVol-3 (ورلڈ ٹریڈ سینٹر رضا کار کا معاوضے کا دعویٰ) بروقت بورڈ میں جمع کروانا چاہیے۔
- G. براہ کرم نوٹ فرمائیں: اگر آپ نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی بچاؤ، بحالی اور/یا صفائی کی کارروائیوں میں اپنی شرکت سے متعلق ورکرز کمپنیشن کی مراعات کے لیے پہلے دعویٰ دائر کیا تھا، جسے بورڈ نے اس وجہ سے نامنظور کر دیا تھا کیونکہ آپ نے اپنے آجر کو بروقت نوٹس نہیں دیا تھا یا مقررہ وقت کے اندر بورڈ کے پاس دعویٰ دائر نہیں کیا تھا، تو بورڈ اس طرح کے دعوے کو دوبارہ کھولے گا اور اس پر نظر ثانی کرے گا بشرطیکہ آپ کا بیانِ حلفی 11 ستمبر 2026 سے پہلے بورڈ کے پاس دائر کروایا گیا ہو۔
- H. براہ کرم نوٹ فرمائیں:
- "شرکت کنندہ" بورڈ کے پاس 11 ستمبر 2026 تک بیانِ حلفی دائر کروا کر لازماً رجسٹر ہو، تاکہ مذکورہ مرد/خاتون کے دعوے پر، دعویٰ دائر کرنے کی مدت میں توسیع کا اطلاق ہو سکے۔
 - اگر کوئی "شرکت کنندہ" پہلے ہی "اہلیتی حالت" کے لیے ورکرز کمپنیشن کی مراعات کے لیے دعویٰ دائر کر چکا ہے کہ جسے بروقت دائر نہ کرنے کی صورت میں مسترد کر دیا گیا تھا اور اب وہ بورڈ کے پاس بیانِ حلفی بروقت دائر کرنے میں ناکام ہوا ہے، تو بورڈ کی جانب سے "شرکت کنندہ" کا دعویٰ دوبارہ نہیں کھولا جائے گا اور نہ ہی اس پر نظر ثانی کی جائے گی۔ سوائے اس کے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں بچاؤ، بحالی یا صفائی کی کارروائیوں میں شرکت کرنے والے ایسے فرد کا دعویٰ اس باب کے سیکشن 18 یا سیکشن 28 کی جانب سے رد نہیں کیا جائے گا کہ جس کو 11 ستمبر 2012 اور 11 ستمبر 2021 کے درمیان کام کرنے کی صورت میں معذوری ہوئی ہو، بشرطیکہ ایسا دعویٰ 11 ستمبر 2026 کو یا اس سے پہلے دائر کیا گیا ہو۔ کسی ایسے شرکت کنندہ کا ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں بچاؤ، بحالی یا صفائی کی کارروائیوں میں شرکت کرنے کا ایسا کوئی بھی دعویٰ، جس کو 11 ستمبر 2012 اور 11 ستمبر 2021 کے درمیان کام کرنے کی وجہ سے معذوری لاحق ہوئی ہو، اور اس باب کے سیکشن 18 یا 28 کی جانب سے اسے نامنظور کیا گیا ہو، تو بورڈ کی جانب سے اس پر نظر ثانی کی جائے گی۔
 - توسیعی مدت کے دوران دعویٰ دائر کرنے کا اطلاق صرف ایسے "شرکت کنندہ" کے دعوے پر کیا جائے گا جو 11 ستمبر 2026 سے پہلے بورڈ کے پاس بیانِ حلفی دائر کروا کر رجسٹر ہوتا ہے۔

ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں بچاؤ، بحالی اور/یا صفائی کی کارروائیوں میں

شرکت کی رجسٹریشن

(بیانِ حلفی از روئے ورکرز کمپنیشن قانون §162)

رجسٹریشن سے مراد ورکرز کمپنیشن کی مراعات کے لیے دعویٰ دائر کرنا نہیں ہے

در معاملہ رجسٹریشن برائے

، شرکت کنندہ

بیانِ حلفی

(آپ کا پہلا نام، درمیانی نام اور آخری نام)

WCL§162

ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں بچاؤ، بحالی اور/یا صفائی کی کارروائیوں
میں شرکت کے سلسلے میں۔

(کی ریاست

(ریاست/صوبہ جہاں آپ کو یہ تصدیق حاصل ہوئی)

SS (

کی کاؤنٹی

(کاؤنٹی، یا ملک اگر امریکہ سے باہر تھے، جہاں آپ کی تصدیق کی گئی)

میں، (پہلا نام، درمیانی مختصر نام اور آخری نام پرنٹ کریں)

باضابطہ حلف اٹھاتا/اٹھاتی ہوں اور گواہی دیتے ہوئے بیان دیتا/دیتی ہوں:

1. میں اوپر نامزد شرکت کنندہ ہوں، اور _____
پر رہتا/رہتی ہوں (اسٹریٹ نمبر اور نام، شہر، ریاست، زپ
کوڈ اور اگر امریکہ میں سکونت پذیر نہیں ہیں تو ملک کا نام فراہم کریں)۔ میرا ڈاک کا پتہ (اگر رہائشی پتے سے مختلف ہے تو)
میرا ٹیلی فون نمبر _____ (علاقائی کوڈ، نمبر) ہے۔ میرا سوشل سیکیورٹی نمبر
_____ ہے (اختیاری) اور میری تاریخ پیدائش _____ ہے۔
2. میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں بچاؤ، بحالی اور/یا صفائی کی کارروائیوں میں شرکت کنندہ تھا جیسا کہ یہ اصطلاح ورکرز کمپنیشن قانون
§161 (1) میں بیان کی گئی ہے۔ (مکمل تعریف کے لیے ہدایتی صفحہ ملاحظہ کریں)۔
3. میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں بچاؤ، بحالی اور/یا صفائی کی کارروائیوں میں (واضح کریں کہ آیا ایک ملازم کی حیثیت سے یا رضاکارانہ
حیثیت) سے شریک ہوا جیسا کہ ورکرز کمپنیشن قانون §161 (1) میں بیان کیا گیا ہے _____ (ایک فرد
نے ملازم کی حیثیت سے شرکت کی اگر وہ اس دوران اپنی ملازمت کی مدت میں تھا/تھی اور اسے اجرت دی گئی تھی۔ ایک فرد نے رضاکار کی حیثیت سے شرکت کی اگر یہ
اس کی ملازمت کا حصہ نہیں تھا اس کو اپنے آجر کی جانب سے شرکت کرنے کی ہدایت نہیں دی گئی تھی اور اس کو انجام دی گئی خدمات پر اجرت نہیں دی گئی)۔
4. میری رضاکارانہ طور پر انجام دی گئیں سرگرمیوں کے درج ذیل شواہد موجود ہیں _____
_____ (اپنی رضاکارانہ سرگرمیوں کی تصاویر، بیجز، خطوط، وغیرہ جیسے کسی بھی شواہد کی فہرست درج کریں)۔ (اگر آپ نے
رضاکارانہ طور پر شرکت نہیں کی، تو اس پیراگراف کو کاٹ دیں)۔
5. وہ تاریخ (تاریخیں) اور مقام (مقامات) جہاں میں نے شرکت کنندہ کے طور پر کام کیا، اس کام کی تفصیل جو میں نے انجام دیا،
شرکت کنندہ ہونے کے دوران میرے آجر کا نام اور پتہ یا اس ایجنسی یا ادارے کا نام جس نے مجھے رضاکارانہ شرکت کرنے کی
ہدایت دی، اور انشورنس کیریئر، اگر قابل اطلاق ہو اور/یا میرے آجر کو معلوم ہو، درج ذیل ہیں:

شرکت کرنے کی تاریخ (تاریخیں)	مقام (مقامات) جہاں شرکت کی	انجام دیے گئے کام کی تفصیل	آجر/ تحفظاتی ادارے یا ایجنسی کا نام	آجر/ تحفظاتی ادارے یا ایجنسی کا پتہ	آجر کے انشورنس کیریئر کا نام (اگر معلوم ہے)

6. میں نے (بیان کریں کہ آیا آپ نے کیا ہے یا نہیں) _____ ورکرز کمپنیشن قانون §162 (1) میں بیان کردہ کے مطابق ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں بچاؤ، بحالی اور/یا صفائی کی کارروائیوں میں اپنی شرکت کے سلسلے میں ورکرز کمپنیشن بورڈ (جسے یہاں "بورڈ" کہا گیا ہے) کے پاس ایک دعویٰ دائر کیا ہے۔ میں نے اپنا دعویٰ بتاریخ _____ (وہ تاریخ کہ جب دعویٰ ورکرز کمپنیشن بورڈ کے پاس دائر کیا گیا تھا) کو دائر کیا اور دائر کردہ دعوے کا "WCB کیس نمبر" _____ ہے (ورکرز کمپنیشن بورڈ کی جانب سے تفویض کردہ آٹھ ہندسی نمبر)۔

7. میں سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ بورڈ کے پاس یہ بیان حلفی دائر کروا کر، میرا مقصد مراعات کے لیے دعویٰ دائر کرنا نہیں ہے اور بورڈ کیس فائل تیار نہیں کرے گا۔ میں سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ دعویٰ دائر کرنے کے لیے مجھے فارم C-3، ملازم کا دعویٰ برائے معاوضہ، یا فارم WTCVol-3، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے رضاکار کا دعویٰ برائے معاوضہ بورڈ کو بروقت جمع کروانے ہوں گے۔

8. میں سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ قانون جھوٹی گواہی، بورڈ جیسے عوامی ادارے کے پاس دائر کرنے کی خاطر پیش کردہ تحریری دستاویز میں جان بوجھ کر جھوٹے بیانات دینے، اور انشورنس کے دعوے کے سلسلے میں جان بوجھ کر جھوٹے بیانات دینے کے لیے سزائیں مقرر کرتا ہے۔ ذیل میں اپنے نام کے دستخط کر کے میں جھوٹی گواہی کی سزا کے تحت قسم کھاتا/کھاتی ہوں اور تصدیق کرتا/کرتی ہوں کہ میں نے حامل ہذا میں جو معلومات اور بیانات دیے ہیں وہ درست ہیں۔

مکمل دستخط

(صرف سیاہی استعمال کریں -- اگر ممکن ہو تو نیلا بال پوائنٹ پین استعمال کریں)

میرے رُوبرو اس _____ دن _____ ماہ،

20 _____ سال کے دن حلف اٹھایا گیا

ناظر رجسٹری